



جس نے اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھی: "اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْنَعْتَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" (اَللَّهُمَّ اسْكُنْ كَامِلَ دُعَوَتِ اُورَ قَائِمَهُ وَنَمَارَ کَرَبَّ! مُحَمَّدًا کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا (اَللَّهُمَّ اسْكُنْ مَقَامَ مُحَمَّدًا پر کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا (اَللَّهُمَّ اسْكُنْ کَلِيلَ قِيَامَتِ کَلِيلَ دَنِ مَيْرِي شَفَاعَتِ وَاجِبَّ وَجَائزَ کَلِيلَ)۔

جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: "جس نے اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھی: "اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، أَتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْنَعْتَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" (اَللَّهُمَّ اسْكُنْ کامِلَ دُعَوَتِ اُورَ قَائِمَهُ وَنَمَارَ کَرَبَّ! مُحَمَّدًا کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کر جس کا تو نے وعدہ کیا (اَللَّهُمَّ اسْكُنْ کَلِيلَ قِيَامَتِ کَلِيلَ دَنِ مَيْرِي شَفَاعَتِ وَاجِبَّ وَجَائزَ کَلِيلَ)"

[صحیح] [اسے بخاری نے روایت کیا]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے مؤذن کی اذان سنتے کہ بعد یہ دعا پڑھی: (اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ) یعنی اذان کے کامل الفاطر، جن کے ذریعے اللہ کی عبادت اور نماز کی جانب بلا یا جاتا ہے اور کھڑی ہونے والی نماز، جو تمیش پڑھی جاتی رہے گی، کہ رب! "أَتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ" مُحَمَّد کو جنت کا وہ اونچا مقام عطا فرما، جو آپ کے علاوہ اور کسی کو زیب نہیں دیتا اور دیگر مخلوقات کے مراتب سے اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے۔ "وَابْنَعْتَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ" اور انہیں مقام محمود عطا کر، جس کا تو نے ان سے یہ فرمایا کیا ہے: "عسیٰ ان بیعتک ریک مقامًا مَحْمُودًا" (عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا)۔ جس نے یہ دعا پڑھی، وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق دار ہو گا اور اس کے آپ کی شفاعت واجب ہو جائز گی۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10635>